



حیات اللہ انصاری

(1911 – 1999)

حیات اللہ انصاری لکھنؤ میں پیدا ہوئے۔ 1926 میں مدرسہ فرنگی محل سے مشرقی علوم کی سند حاصل کی۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے بی۔ اے۔ کیا۔ طالب علمی کے دوران ہی قومی تحریکوں میں دل چھپی پیدا ہو گئی تھی۔ مہاتما گاندھی سے عقیدت کی بنا پر وہ کاغذیں میں شامل ہوئے اور آخر وقت تک کاغذی کی رہے۔ 1937 میں ہفتہ وار اخبار ہندوستان جاری کیا۔ 1944 میں پنڈت جواہر لعل نہرو نے لکھنؤ سے روزنامہ ”قومی آواز“ جاری کیا اور انصاری صاحب اس کے پہلے مدیر مقرر ہوئے۔ 1966 اور 1982 میں راجیہ سبھا کے رکن رہے۔ حیات اللہ انصاری اور ان کی اہمیت نے اردو کو اس کا جائز مقام دلانے کے لیے ڈاکٹر ذاکر حسین کے ساتھ ایک دستخط میں چلائی تھی۔

حیات اللہ انصاری نے افسانے، ناولت اور ناولوں کے ساتھ ساتھ تنقیدی مضمایں بھی لکھے اور غیر اردو دال حضرات کو اردو سکھانے کے لیے ایک قاعدہ ”دس دن میں اردو“ لکھا۔ 1952 میں لکھنؤ میں تعلیم بالغان کے لیے تعلیم گھر قائم کیا۔ حیات اللہ انصاری نے پہم چند کے افسانوں سے متاثر ہو کر افسانے لکھے لیکن ان کے افسانوں کی نضا مختلف ہے۔ ان افسانوں کے مطلعے سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان میں مشاہدہ، تخیل اور فکر تینوں ایک دوسرے کے متوازی ہیں۔ ان کے افسانے زندگی کے تمام پہلوؤں کی ترجمانی کرتے ہیں۔

حیات اللہ انصاری کے افسانوں کا پہلا مجموعہ ”انوکھی مصیبت“ 1939 میں شائع ہوا۔ اس کے بعد ”بھرے بازار میں“، ”شکستہ کنگورے“ اور ”ٹھکانا“ کے عنوان سے ان کے افسانوی مجموعے، دو ناول ”دار“ اور ”گھروندا“، منظر عام پر آئے۔ پانچ جلدیوں پر مشتمل خیم ناول ”لہو کے پھول“، ”چھپا۔“ جدیدیت کی سیر، حیات اللہ انصاری کی تنقیدی کتاب ہے۔ انہوں نے پھول کے لیے بھی کہانیاں لکھیں جو ”میاں خو خو“ اور ”کالا دیو“ کے نام سے شائع ہو چکی ہیں۔

بھلک



5012CH03

کیلاش کی لاری پتھورا گڑھ کے خنک بھر اور تپتے ہوئے پہاڑوں کے ایک درے سے پار کر کے موتی نگر کی وادی میں داخل ہوئی اور داخل ہوتے ہی منظر اور موسم اور مسافروں کا مزاج سب کچھ بدلتا گیا۔ سامنے ایک طرف نندادیوی اور ترشول کی برف پوش چوٹیاں چمک رہی تھیں اور دوسرا طرف ڈھلوال پہاڑوں پر سیب، ناشپاتی اور آلوچوں کے باغوں کی ہریائی تھی جو پہاڑوں کے سلسلوں سے زینہ بزینہ اُرتتی ہوئی نیچے جا کر گھنے درختوں اور نامعلوم تاریکیوں میں گم ہو جاتی تھی۔

جب لاری اسٹینڈ پر پہنچی کیلاش اپنی بہنوں سمیت اتراتو اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے آج کوئی بہت بڑا تھوا رہے جسے پہاڑ اور ان کی چوٹیاں، درخت اور چڑیاں آسمان اور سورج یہ سب کے سب انسانوں کے ساتھ مل جل کر منا رہے ہیں۔ اس خوش گوار منظر میں کیلاش ایسا کھویا کہ اسے اپنی سخت بیماری کی وجہ سے زندگی کی طرف سے جو مایوسی تھی وہ بالکل دور ہو گئی اور ایسا محسوس ہونے لگا جیسے آسمان کو چومنے والے پہاڑ اشاروں میں کہہ رہے ہیں کہ ہماری شاندار، صاف و شفاف اور دل کش دنیا میں بیماری اور مصیبتوں کا کیا کام۔ لاری اسٹینڈ سے ایک سڑک پر مل کھاتی ہوئی جھوموتی جھامتی آبادی کی طرف جاتی تھی۔ اس نے کیلاش کو ایسا لبھایا کہ وہ نوکر سے جو اسباب کو انھوں نے میں لگا رہا تھا یہ کہہ کر کہ میں ڈاک بنگلے کی طرف چلتا ہوں، روانہ ہو گیا۔ راستے بہت دل کش تھا اور ہر موڑ قدرت کی نت نئی فیاضیوں سے مالا مال تھا۔

کچھ دور نکل کر کیلاش ایک پتھر پر بیٹھ گیا۔ ایک پیالی چائے پی، کچھ دیر سامنے کے منظر سے اطف اٹھایا اور پھر آگے کی طرف چل کھڑا ہوا۔ راستے میں ایک باغ میں ایک آدمی تازے سیبوں کو چیڑ کے بکس میں بند کر رہا تھا۔ اس کے پاس دو مسافر کھڑے تھے جن میں ایک دل گیارہ برس کی خوب صورتی لڑکی تھی۔ وہ دونوں پھل والے سے ہنس کر باتیں کر رہے تھے۔

کیلاش ادھر دیکھ رہا تھا کہ اتنے میں پاس سے ایک آواز آئی۔ ”بابو جی۔ پتھر ماں میں لے چلوں؟“ کیلاش نے مڑ کر دیکھا۔ بارہ تیرہ برس کی دلبی پتی لڑکی کھڑی تھی اور بڑی بڑی، مظلوم اور مایوس آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔

پتھر ماں واقعی کیلاش کو بھاری معلوم ہو رہا تھا۔ اس نے وہ لڑکی کے حوالے کر دیا اور پھر اس فیاضی سے جو قدرت نے اس وادی کے ساتھ دھلانی تھی پوچھنے لگا۔

”کہاں رہتی ہو؟“

لڑکی نے نیچے کی گھنی تاریکیوں کی طرف اشارہ کر کے کہا:

”وہاں بہت نیچے۔“

”ماں باپ کیا کرتے ہیں؟“

”مر گئے۔“

”تم کیا کرتی ہو؟“

”سچھنیں۔“

”کیوں؟“

”بچہ سچھنیں کرنے دیتا۔“

”بچہ؟ کیا تمھارا بچہ بھی ہے؟“

لڑکی اس بدگمانی پر ہنس پڑی اور کہنے لگی۔

”میرا دو برس کا بھائی ہے جو بہت دیق کرتا ہے۔ ہر وقت کھانا مانگتا ہے۔ رات کونہ وہ سونے دیتا ہے اور نہ ڈر۔“

ڈر!! اس وادی میں کس چیز سے؟“

”میری کھڑیا کا دروازہ ٹوٹا ہوا ہے۔ رات بھر میں ڈرتی رہتی ہوں کہ کوئی آکر ہم کو کھانہ جائے۔“

کیلاش کے دل میں دیا اُبل پڑی۔

”نوکری کرے گی؟“

”کوئی رکھتے تو کیوں نہ کروں۔ میں تو بہت محنت سے اس کی سیوا کروں گی۔“

”اچھا میں رکھوں گا تجھے بھی اور تیرے چھوٹے بھائی کو بھی۔“

لڑکی حیرت زدہ ہو کر کیلاش کو دیکھنے لگی۔

”بابو جی۔ سچ! سچ!“

”ہاں سچ۔ بالکل سچ۔“

لڑکی تھوڑی دیر تک حیرت زدہ رہی۔ پھر اس کی آنکھوں میں آنسو آگئے۔ اور وہ کیلاش کے پاؤں پر گر پڑی۔ اور شکر گزاری سے

بابو جی بابو جی کرنے لگی۔ اس کے منھ سے اور کچھ نہ لکا۔

رجنی خوشی کے مارے رات کو سونہ سکی۔ ذرا ذرا دیر کے بعد اس کی آنکھ کھل جاتی تھی اور ہر بار وہ کروٹ لے کر ٹوٹ کواڑوں کی درزوں سے جھانکتی تھی کہ پھاڑوں کے اوپر آسمان پر صبح کی سفیدی تو نہیں نظر آ رہی۔ آج اس کا روزانہ والا خوف کہ کہیں رات کو کوئی بھی انک شکل والی چیز اس کی کوٹھری کے ٹوٹے پھوٹے دروازے سے گھس کر اس کو اس کے سب بھائی بہنوں کو سوتے میں کھانہ جائے دور پھاڑوں میں چھپ گیا تھا۔ اس کے سامنے سکھ سے بھری ہوئی صبح تھی اور پھر عیش و آرام سے بھرے ہوئے دن اور رات۔

رجنی نے اپنے پانچوں بھائی بہنوں پر نظر ڈالی۔ جو کمبولوں کے گودڑ کے نیچے ایک دوسرا سے چمٹے ہوئے بے خبر سور ہے تھے۔ رجنی سوچ رہی تھی کہ ذرا دیر میں صبح ہو جائے گی۔ اور پھر اپنے بھائی بہنوں کو لے کر پانچ سو فٹ کی چڑھائی چڑھ کر بابو جی کے پاس پہنچ جاؤں گی۔ پھر کیا؟ روٹیاں ملیں گی، پہنچنے کو بھی ملے گا اور رات کو اوڑھنے کو بھی اور ڈر سے بہت دور کسی کوٹھری میں سونے کو جگھے ملے گی۔

آخر صبح قریب آئی گئی اور اس کے دو سال کے دلبے پتلے سوکھے ساکھے بھائی اللو نے چین مار کر رونا شروع کر دیا۔ آج رجنی نے سستی نہیں دھکلائی اور جلدی سے اسے پیش اب کرالیا۔ ورنہ ہوتا تو یہ تھا کہ وہ یوں ہی دن چڑھے تک پڑا رہتا تھا اور پھر جب اس کا بستر رجنی کو بھیگا ہوا ملتا تھا تو وہ لتو کو دھنک کر رکھ دیتی تھی۔ آج رجنی نے صرف اتنا ہی نہیں کیا کہ اسے پیش اب کرالیا بلکہ اسے پیار بھی کیا اور بہلا بھی۔ یہ چیز اللو کے لیے کچھ اتنی عجیب سی خوشی لے کر آئی کہ وہ رات بھر کی بھوک کو بھول گیا۔ اور اپنی ٹوٹی پھوٹی بوی میں باقیں کرنے لگا۔

جس وقت موتی گلر کی پچھم کی چوٹیوں پر دھوپ کی پہلی چمک نظر آئی ہے، اس وقت تک چھ بچوں کا یہ قافلہ سو فٹ پھاڑ پر چڑھ چکا تھا۔ اور بہت تھک چکا تھا۔ ہوا ٹھنڈی تھی۔ تیز تھی اور مخالف تھی اس وجہ سے بچوں کو خالی پیٹ اور چڑھنے میں بہت دشواری ہو رہی تھی۔ لتو کئی مرتبہ روچکا تھا اور رجنی کے ہاتھ سے اس پر پٹ بھی چکا تھا۔ رجنی نے ذرا دیر اسے گود میں بھی لیا تھا لیکن بارہ برس کی لڑکی جسے پیٹ بھر کھانا نہ ملتا ہو کیسے دو سال کے بچے کو لے کر دور تک جا سکتی تھی اس لیے لتو چل سکے یا نہ چل سکے اسے چلانا تو پڑے گا ورنہ رجنی مار کر راستے ہی میں ختم کر دے گی۔ اس وقت تو وہ کچلی ہوئی ناگن کی طرح بھری ہوئی تھی۔ اسے سخت کو فت تھی کہ یہ دو سال کا ہڈیوں کا ڈھانچہ، میں جہاں جاؤں یا جو کام کروں میری راہ میں حائل رہتا ہے۔ اب دیکھو اس وقت عیش و آرام کی دنیا صرف چار سو فٹ اوپر ہے۔ اگر یہ نہ ہوتا تو میں کب کی وہاں پہنچ پچھی ہوتی۔

رجنی کا غصہ دیکھ کر کلو جوللو سے دو سال بڑا تھا اور متنی جو چار سال بڑی تھی سمجھی سمجھی ہوئے تھے اور ہانپ ہانپ کر ایک ایک قدم آگے بڑھ رہے تھے۔ البتہ نتیسی اور رامور جنی کی طرح تازہ دم تھے بلکہ ان دونوں نے بھی اللو کو باری باری گود میں ذرا ذرا دیر کے لیے اٹھا لیا تھا۔

اس طرح چھوٹے چھوٹے انسانوں کا یہ چھوٹا قافلہ ڈانت اور مار، خوف اور آنسو، تھکاوٹ اور ہاپنے، امیدوں اور تمباوں کے ساتھ پچاس فٹ اوپر چڑھ گیا۔ اس جگہ رامو کو ایک چشمے کے پاس پڑا ہوا ایک داغی سیب مل گیا۔ لیکن وہ ابھی منھ تک نہیں لے جانے پایا تھا کہ رجنی نے جھپٹ کر اسے چھین لیا اور دانت سے اس کا ایک بڑا سا ٹکڑا کاٹ کر اللو کو دیا۔ اور پھر باقی کے دو ٹکڑے کر کے کلو اور منی کو۔

کلو اور منی سیب کا ٹکڑا کھا کر، چشمے کا پانی پی کر تازہ دم ہو گئے اور باتیں کرنے لگے۔

کلو : ”اوپر پتا اور ماں ملیں گی۔“

منی : ”نہیں — الو — وہ نہیں — وہ تو مر گئے۔“



کلو : ””جو مر جاتے ہیں کیا وہ اوپر بھی نہیں ملتے؟“
منی : ””(بہت سب سیدگی سے) وہ کہیں نہیں ملتے۔“ ہم لوگ ایک اور بابو جی کے پاس جا رہے ہیں جو پتا جی کی طرح روٹی دیں گے۔ کپڑے دیں گے اور اوڑھنے کو دیں گے۔“

ان دونوں کی باتیں سن کر نہ جانے کیا ہوا کہ رجنی پلچل سی گئی۔ اس نے ان دونوں کو اور پھر للوکو پیار کیا اور کہا کہ ”اب دھیرے دھیرے اٹھتے بیٹھتے چلیں گے۔ پھر ڈھارس دینے لگی کہ اوپر پہنچتے ہی، بہت سی روٹیاں ملیں گی جن میں گیہوں کی بھی ہوں گی۔ گرم گرتے اور پیجا مے ملیں گے، چائے ملے گی، سیب ملیں گے، پھر بابو جی کے ساتھ ہم لوگ ان کے دلیں چلے جائیں گے جہاں بہت آرام سے رہیں گے۔“

رجنی جس نے آج تک اس وادی کے علاوہ اور کچھ نہیں دیکھا تھا، پہاڑوں کی چوٹیوں کی طرف دیکھنے لگی اور سوچنے لگی کہ اس پار کی دنیا کیسی ہوگی؟ مگر جیسی بھی ہو، وہاں روٹیاں ہوں گی، کرتے پیجا مے ہوں گے اور ایسے گھر ہوں گے جن میں ڈرنے لگتا ہوگا۔

رجنی اب اپنے قافلے کو لے کر مزے مزے اور چڑھنے لگی۔ جتنا جتنا اور چڑھتی جاتی، اس کی خوش بڑھتی جاتی۔ رجنی کو معلوم تھا کہ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ پہاڑوں میں گھونٹے والے دولت مند کسی پہاڑی مرد یا عورت کو کھکھراپنے ساتھ میدان میں لے جاتے ہیں جہاں نہ برف پڑتی ہے نہ بھوک ہوتی ہے۔ لیکن یہ بات دور دور اس کے تصور میں نہ تھی کہ میں بھی ان خوش نصیبوں میں ہو سکتی ہوں اور میرے ساتھ میرے پانچ بھائی بہن بھی۔ سورج اور چڑھرہا تھا اور رجنی بھی اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ اور چڑھرہی تھی۔ آخر ڈاک بنگلہ کی سرخ چھت نے اپنی جھلک دکھلای دی۔

کیلاش چائے پی رہا تھا اور کھڑکی سے صاف ستری نندادیوی اور اس کے نیچے کے عظیم الشان پہاڑوں کو دیکھ رہا تھا کہ اس کے نوکرنے آکر خبر دی —

”کل والی بڑی آئی ہے۔“

”اور اس کا بچہ بھی؟“

”ایک چھوٹ پانچ پانچ بچے ساتھ ہیں۔“

”پانچ پانچ۔“

نوکر : ”جی حضور!“

کیلاش نے باہر آ کر دیکھا تو رجنی کھڑی تھی اور اس کے گرد بہت سے چھوٹے بڑے، میلے کھیلے، چڑپے چند ہے بچے، ناک سے سُرٹُر کر رہے تھے اور کچھ سے لٹ پت آنکھوں سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔
کیلاش نے رجنی کے پاس جا کر سختی سے جواب طلب کیا۔

”یہ سب کون ہیں؟“

رجنی کیلاش کو دیکھ کر اتنی خوش ہوئی کہ اس نے اس کی سختی کی طرف ذرا بھی توجہ نہیں کی اور چلا کر کہنے لگی۔

”میں ان سب کو لے آئی، اب یہ سب آپ کے پاس رہیں گے یہ متنی ہے، یہ للو ہے، وہ رامو ہے، وہ گلو ہے، وہ تلسی ہے۔“

کیلاش : ”سب تیرے بھائی ہیں؟“

رجنی : جی ہاں، دو بھائی ہیں اور دو بھینیں ہیں۔

رجنی ذرا صاف سترھی تھی اور اس کی صورت میں ایک کشش تھی لیکن بچے تو سڑی گلی چیزوں کا ڈھیر معلوم ہوتے تھے۔ ان کو دیکھ کر کیلاش کا جی مبتلا نے لگا۔ اور کل والی رومانی فیاضی جورات گز رجانے سے باسی ہو چکی تھی حقیقت پسندی سے بدل گئی اور کیلاش سوچنے لگا کہ رجنی کے ساتھ ایک بچہ ہوتا دو ہوتے تو ممکن تھا، لیکن انہوں کو کیسے پالا جاسکتا ہے؟ یہ سب ہمارے چھوٹے سے گھر میں کیسے رہیں گے، ان کو کھلا دیا اور پہنایا کہاں سے جائے گا؟ پھر یہ بہتی ہوئی ناکیں، یہ کچھ بھری آنکھیں، یہ کوئلہ ایسے ہاتھ پاؤں، یہ بُو اور میل!! کیلاش کی بھینیں بھی باہر نکل آئی تھیں کہ ہم بھی ذرا بھی کے مہمانوں کو دیکھیں۔

وہ بولیں : ”بھیا ان سب کو لے چلو گے؟“

کیلاش یہ سوال سن کر جھنجھلا گیا اور رجنی سے کہنے لگا۔

”تو نے کل کیوں نہیں بتالیا کہ تیرے ساتھ اتنی بڑی فوج ہے، سب کو میں کہاں رکھ سکتا ہوں؟“

یہ سن کر رجنی پر بچلی گر پڑی۔ اتنی بڑی مایوسی کا سامنا اس نے زندگی میں پہلی بار کیا تھا۔ اس کا چہہ بالکل سوکھ گیا اور آنکھیں اندر ڈوب گئیں مگر منہ سے کچھ نہ نکل سکا۔ اس کے سب بھائی بہنوں کا بھی یہی حال ہوا۔ کلو تو پھوٹ پھوٹ کرو نے لگا۔

رجنی نے اپنی گھونی فوج کو نفرت بھری آنکھوں سے دیکھا۔ ایسی نفرت جس کا تقاضا یہ تھا کہ ان سب کو مار ڈالو یا خود مر جاؤ۔

پانچ منٹ کے اندر اندر یہ فوج ناکامی اور نامرادی کو اپنے پہنچے دامنوں میں لے کر پسپا ہوئی لیکن کیلاش کے لیے آسان نہ

تھا کہ ان کو یوں رخصت کرتا۔ اس کی دیا جو مرگئی تھی پھر کراہنے لگی اور پکارنے لگی کہ کچھ تو کرو۔ اس پکار سے نجات پانے کے لیے کیلاش نے رجنی کو پکارا۔ اور دور پیسے اس کے ہاتھ میں رکھ دیے۔

دور پیسے۔ اس سے بہت کچھ خریدا جاسکتا ہے، رجنی اپنی فوج کو لے کر بازار کی طرف بھاگی اور ایک دوکان کے سامنے سب کو پوریاں کھانے اور کھلانے لگی۔ پہلے آٹھ آنے کی پوریاں لیں، پھر آٹھ آنے کی اور لیں، پھر چار آنے کی اور لیں، پھر اور چار آنے کی۔ اس طرح دونوں روپیے ختم ہو گئے۔ لیکن نہ بھوک گئی اور نہ کھانے کی حسرت۔

دوپہر کے بعد یہ قافلہ خالی ہاتھ نیچے کی طرف تھکے دل اور تھکے پاؤں کے ساتھ اترنے لگا اور اس طرح کہ بیٹھ گیا تو اٹھنے کی ضرورت ہی نہ محسوس کی۔ صبح جن تاریکیوں سے نکل کے آیا تھا، شام کو ان ہی کی طرف جا رہا تھا۔ سورج بھی ڈوبتا جا رہا تھا اور وہ لوگ بھی اترتے جا رہے تھے مگر بالکل خاموشی سے، نردن، نہ ڈانٹنا، نہ اظہار حسرت، نہ ڈھارس گویا یہ سب نیچے نہیں بوڑھے تھے، اور وہ بھی ہڈی چڑی کے نہیں، گودڑ کے بنے ہوئے۔ صرف لتو دو ایک بار رویا مگر رجنی کے مارنے نے اس کی بھی آواز بند کر دی۔ سورج ڈوبنے پر یہ لوگ اسی اپنی پرانی کوٹھری میں پہنچے جہاں بھوک تھی اور سردی تھی، خوف تھا اور ان تینوں کے سوا کچھ نہ تھا۔

پہنچتے ہی تھکی ہوئی تلسی نے آہستہ سے کہا۔ ”بھوک لگی ہے۔“ پھر رامونے بھی کہا، پھر منی اور کلو نے بھی۔ دل کی امیدوں کے ساتھ پیٹ کی پوریاں بھی غائب ہو چکی تھیں۔

رجنی بچوں کو اندر ہیرے اور بھوک اور ڈر کی آغوش میں چھوڑ کر پڑو سیبوں کی دیا کا امتحان کرنے نکل کھڑی ہوئی۔

حیات اللہ انصاری

مشق

لفظ و معنی:

بُجْر	:	وہ زمین جس میں کچھ پیدا نہ ہو
برف پوش چوٹیاں	:	برف سے ڈھکلی ہوئی چوٹیاں
دل کش	:	دل کو لبھانے والا

دُق کرنا	:	تگ کرنا، پریشان کرنا
چشمہ	:	پانی کا سوتا
حضرت	:	کسی چیز کے نہ ملنے کا احساس
پسپا	:	شکست، ہار

غور کرنے کی بات:

- یہ افسانہ انسان کی بیوادی ضرورتوں یعنی روحی، کپڑا اور مکان کے مسائل کے گرد گھومتا ہے اور یہ ثابت کرتا ہے کہ بھوک مٹانے کے لیے کتنی مصیبت اٹھانی پڑتی ہے۔
- اس افسانے کے مرکزی کروار رجمنی میں ہندوستانی عورت کی متناظر آتی ہے۔ وہ اپنی فاقہ کشی اور مفلسی کے باوجود چھوٹے بہن بھائیوں کے لیے ایثار اور قربانی کی مثال پیش کرتی ہے۔

سوالوں کے جواب لکھیے:

- 1 - موئی نگر کی وادی میں داخل ہوتے ہی مسافروں کا مزارج کیوں بدلتے گیا؟
- 2 - رجمنی کو ایسی کون سی خوشی حاصل ہوئی جس کی وجہ سے وہ رات بھر سونہ سکی؟
- 3 - پہاڑ پر چڑھتے وقت رجمنی اور اس کے بہن بھائیوں کے جذبات کیا تھے؟
- 4 - کیلاش نے ایسا کیا کہا جسے سن کر رجمنی پر بھلی سی گرفڑی؟

عملی کام:

- افسانے کا مرکزی خیال بتائیے۔
- اس افسانے میں ایک محاورہ استعمال ہوا ہے ”بھلی گرنا“۔ یہ محاورہ کس موقع پر استعمال ہوتا ہے۔ ایک یادو جملوں میں استعمال کر کے واضح کیجیے۔
- اس افسانے کے آخری جملے کی وضاحت کیجیے۔